



## سوال

(473) میرا خواب سچا ہو جاتا ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں اٹھارہ برس کی ایک لڑکی ہوں اور محمد اللہ راہ راست پر اور دین کی پابند ہوں لیکن میں اکثر و بیشتر ڈراؤنے خواب دیکھتی ہوں مگر چند دنوں بعد ہی سپیدہ سحر کی طرح ان کی تعمیر سامنے آجاتی ہے اور میرے گھر والوں اور خاندان کو آرام و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں جب اس قسم کے خواب دیکھتی ہوں تو اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیتی ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس معاملے کی بابت ایسا فتویٰ عطا فرمائیں گے جس سے میرے یہ مصائب ختم ہو جائیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حکم شریعت یہ ہے کہ جب کوئی شخص ڈراؤنا خواب دیکھے تو وہ بیدار ہونے پر اپنے بائیں طرف تین بار تھوک لے اشیطان اور برے خواب سے اللہ کی تین بار پناہ مانگے اور کروٹ بدل کر لیٹ جائے اس سے یہ ڈراؤنا خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتائے کیونکہ نبی ﷺ نے برا خواب دیکھنے والے کو یہی ہدایات فرمائی ہیں! جو ذکر کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص ہچما خواب دیکھے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو بتا دے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے ثابت ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 360

محدث فتویٰ